



مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا سوائے پرہیزگار کے کوئی اور نہ کھائے

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ فرمایا: ”مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا سوائے پرہیزگار کے کوئی اور نہ کھائے“
[حسن] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مستفاد ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ تمام حالات میں نیکوکاروں کو لازم پکڑے، اس حدیث میں اللہ ایمان کی صحبت اختیار کرنے پر ابھارا گیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ کفار اور منافقین سے دوری اختیار کی جائے، اس لیے کہ ان کی صحبت دین کے لیے نقصان دہ ہے مومن سے مُراد اللہ ایمان ہے ”وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا“ کے جملے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید فرمائی یعنی متقی آدمی جو کھانے کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے مطلب ہے ہوا کے اپنا کھانا صرف متقی شخص کو ہی کھلاؤ، اس میں دعوتِ ولیمہ وغیرہ بھی شامل ہے مناسب ہے کہ دعوت میں مدعو مومن اور نیکوکار لوگ ہوں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3474>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

